

برائے فوری اجراء

برامپٹن کی جانب سے کی جانے والی حمایت کے نتیجے میں چھوٹے کاروباروں کو کرایہ میں امداد مل گئی

برامپٹن، آن (24 اپریل 2020) – آج، برامپٹن کی جانب سے کی جانے والی وکالت کی کوششیں رنگ لے آئیں، جب وفاقی حکومت نے اعلان کیا کہ تمام صوبوں اور علاقوں کے ساتھ چھوٹے کاروباروں کے لیے کینیڈا ایمرجنسی کمرشل رینٹ اسسٹنس **CECRA** نافذ کرنے کا اصولی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یہ پروگرام کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے چھوٹے کاروباروں کے لیے کرایہ میں 75 فیصد کمی کرے گا۔

نیا **CECRA** پروگرام برامپٹن میں چھوٹے کاروباروں کو انتہائی ضروری معاونت فراہم کرے گا اور یہ ایک ایسا قدم ہے، جس کے لیے سٹی غیر ضروری کاروباروں کی بندش کے اعلان کے بعد سے وکالت کر رہا ہے۔ 1 اپریل کو، میئر پیٹرک براؤن نے چھوٹے کاروباروں کو کرایوں میں چھوٹ دینے کی حمایت کرنے کے لیے پریمیئر فورڈ اور منسٹر کلارک کو ایک خط لکھا۔ کرایوں میں چھوٹ کا مسئلہ، مارچ میں کووڈ-19 کو عالمی وباء قرار دیے جانے کے بعد سے چھوٹے کاروباروں کے لیے کلیدی مسئلہ رہا ہے۔ جب 17 اپریل کو منعقد ہونے والی ایک اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس شمال بزنس ٹیلی ٹاؤن ہال میں رائے شماری کی گئی، تو 73 فیصد شرکاء نے بتایا کہ انہیں کرایے میں کسی قسم کی چھوٹ نہیں ملی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، جس پر میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس کی تمام میٹنگز پر وفاقی اور صوبائی نمائندوں سے بات کی گئی ہے۔

میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس ان چار ٹاسک فورسز میں سے ایک ہے، جو برامپٹن کے رہائشیوں اور کاروباروں کو کووڈ-19 کے اثرات سے نمٹنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس برامپٹن میں کاروباری امدادی سرگرمیوں و اقدامات کی معاونت کے لیے سفارشات اور اقدامات کو ہم آہنگ بنانے کی ذمہ دار ہے۔ یہ ٹاسک فورس، جس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندے اور ساتھ ہی ساتھ برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایسوسی ایشن (BIA) اور کینیڈین بلیک چیمبر آف کامرس (CBCC) جیسے شراکت دار شامل ہیں، کووڈ-19 کی ابتداء کے بعد سے برامپٹن کے کاروباروں کو معاونت فراہم کرنے میں فعال ہے۔ اس ٹاسک فورس نے چھوٹے کاروباروں کے ساتھ دو ٹیلی ٹاؤن ہالز، جن میں کل 500 کاروباروں نے شرکت کی، اور ریسٹورینٹس کے شعبے اور بڑے کاروباروں کے لیے دو علیحدہ ٹیلی ٹاؤن ہالز کا انعقاد کیا۔ اس کے علاوہ، عملہ کووڈ-19 کے آغاز کے بعد سے برامپٹن کے کاروباروں کی جانب سے تقریباً 1,200 سوالات و استفسارات کے جواب دے چکا ہے۔

اقتباسات

"ہمارے کاروبار ہماری کمیونٹی کی مجموعی بہبود کے لیے اہم ہیں اور ہم کووڈ-19 کے اس بحران کے آغاز کے بعد سے ان کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں، جو ہم ان کی معاونت اور حمایت کے لیے کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری کوششیں ٹھوس اقدامات کا سبب بن رہی ہیں، جو ہماری کاروباری کمیونٹی کے لیے فرق پیدا کریں گے۔ میں اپنی اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس میں وفاقی اور صوبائی نمائندوں، MP کمال خیرہ اور MPP پرمیٹ سرکاریا اور ساتھ ہی ساتھ برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA اور کینیڈین بلیک چیمبر آف کامرس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کام کیا۔ کووڈ-19 کی بیماری نے ایک معاشی مدوجزر کی لہر کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور ہمیں اپنے رہائشیوں اور کاروباروں کی مدد کے لیے مل جل کر کام کرنا ہو گا۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"یہ سب کے لیے ایک بہت پریشان کن وقت رہا ہے – اور خصوصاً ہمارے کاروباروں کے مالکان اور چلانے والوں کے لیے۔ ہم اس بحران کے دوران اپنی کاروباری کمیونٹی کے ساتھ بہت زیادہ رابطے میں رہے ہیں اور ہم نے ان کے خدشات کو سنا ہے۔ وہ اپنے کاروباروں، اپنے ملازمین اور اپنے مستقبل کے بارے میں فکرمند ہیں۔ ہم موجودہ حالات میں اور اپنی بحالی اور نئے عمومی حالات کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی معاونت کرنا جاری رکھیں گے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ نیا پروگرام کئی لوگوں کے لیے بڑی اور فوری امداد فراہم کرے گا۔"

- پال ویسینٹے، وارڈز 1 اور 5 سٹی آف برامپٹن اور شریک چیئر، میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس

"اگرچہ یہ بحران ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں کے لیے انتہائی مشکلات حالات پیدا کر رہا ہے، ہم نے ثابت قدمی، رحمدلی اور کمیونٹی کا جذبہ بھی دیکھا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا ہے، دیگر لوگ، جو اس قابل ہیں، اس بحران میں معاونت فراہم کرنے اور خوراک اور رقم عطیہ کرنے کے لیے اپنے کاروباروں کو استعمال کر کے اس کا سامنا کر رہے ہیں۔" ہم جتنا ممکن ہو سکے اپنی کمیونٹی کو معاونت فراہم کرنا جاری رکھیں گے اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا جاری رکھیں گے اور ہم اس مشکل مرحلے سے بخوبی گزر جائیں گے۔"

- مانیکل پلیسیچی، ریجنل کونسلر، وارٹرز 2 اور 6 سٹی آف برامپٹن اور شریک چیئر، میئرز کووڈ-19 اکنامک سپورٹ ٹاسک فورس

30--

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca